



بچوں کے ساتھ کار میں سفر کرنا بچوں کے ساتھ کار میں سفر کرنا

آسٹریلیا کا قانون لازمی قرار دیتا ہے کہ 7 سال سے کم عمر کے تمام بچے کار میں سفر کرتے ہوئے حفاظتی سیٹ استعمال کریں۔ اس کا مقصد کار کا حادثہ ہونے کی صورت میں بچے کو نقصان سے محفوظ رکھنا ہے۔ یہ بچے کی عمر اور جسامت پر منحصر ہے کہ کس قسم کی کار سیٹ درکار ہے۔ یہ ضروری ہے کہ حفاظتی سیٹ کا سائز بچے کیلئے درست ہو، اسے درست ایڈجسٹ کیا جائے اور درست باندھا جائے اور یہ گاڑی میں درست طور پر لگائی جائے۔



0-6 ماہ عمر کے بچوں کیلئے

بیچھے رخ رکھنے والی حفاظتی سیٹ میں سفر کرنا ضروری ہے۔ حفاظتی سیٹ کو گاڑی کی پچھلی سیٹ میں لگایا جائے۔ اگلی سیٹ میں نہیں۔



4 سال سے کم از کم 7 سال عمر کے بچے

6 ماہ سے 4 سال عمر کے بچے



- اپنی جسامت کے لحاظ سے سامنے رخ رکھنے والی کار سیٹ یا بوسٹر سیٹ میں سفر کر سکتے ہیں۔ بوسٹر سیٹیں بچوں کو درست پوزیشن میں اونچا رکھتی ہیں لہذا سیٹ بیلٹ انہیں درست پوری آتی ہے۔
- 4-7 سال عمر کے بچے گاڑی کی اگلی سیٹ میں (بوسٹر سیٹ استعمال کرتے ہوئے) صرف تب سفر کر سکتے ہیں جب گاڑی کی تمام پچھلی سیٹیں 7 سال سے کم عمر کے بچے استعمال کر رہے ہوں۔
- پشت پر اور اوپر کی طرف ٹیڈر سٹریپ (tether strap) والی بوسٹر سیٹیں دوسری قسموں کی بوسٹر سیٹوں کی نسبت زیادہ محفوظ ہوتی ہیں۔
- 145 سینٹی میٹر قد ہو جانے تک بچوں کو بوسٹر سیٹ کا استعمال جاری رکھنا چاہیئے۔ اگر بچے وقت سے پہلے بڑوں کی سیٹ بیلٹ استعمال کرنے لگیں تو حادثے کی صورت میں انہیں نقصان پہنچنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔


- اپنی جسامت کے لحاظ سے پیچھے رخ رکھنے والی حفاظتی سیٹ یا سامنے رخ رکھنے والی کار سیٹ میں سفر کر سکتے ہیں جس کے اپنے سٹریپ ہوں یہ ضروری ہے کہ بچہ صرف گاڑی کی پچھلی سیٹ میں لگائی گئی حفاظتی سیٹ میں سفر کرے۔ اگلی سیٹ میں نہیں۔
- اب 8 سال تک عمر کے بچوں کیلئے ایسی حفاظتی سیٹیں دستیاب ہیں جن کی اپنی ہارنیس (باندھنے کا نظام) ہوتی ہے۔

حفاظتی سیٹ لگانا

اپنی گاڑی میں بچوں کی حفاظتی سیٹ یا بوسٹر سیٹ لگاتے ہوئے ہمیشہ مینوفیکچرر کی ہدایات پر عمل کریں۔


4 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کیلئے، بوسٹر سیٹ میں سفر کرنے کا مطلب یہ ہے:

- اگر سیٹ کا اوپری ٹیڈر سٹریپ ہو تو اسے گاڑی کے ساتھ ہک کے ذریعے باندھیں۔
- سیٹ بیلت کو بچے کے گرد باندھنا ضروری ہے۔



4 سال سے کم عمر کے بچوں کیلئے، حفاظتی سیٹ لگانے کا مطلب یہ ہے:

- حفاظتی سیٹ کو گاڑی میں لگاتے ہوئے سیٹ بیلت کو نشانزد درزوں میں سے گزارا جائے اور باندھا جائے۔



- اوپری ٹیڈر سٹریپ کو کار کے ساتھ ہک کے ذریعے باندھا جائے۔

حفاظتی سیٹ کا انتخاب

صرف آسٹریلیا کے حفاظتی معیاروں (AS/NZS 1754) پر پوری اترنے والی بچوں کی حفاظتی سیٹوں اور بوسٹر سیٹوں کے استعمال کی اجازت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دوسرے ممالک سے آسٹریلیا لائی جانے والی کار سیٹوں کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔



کوشش کریں کہ استعمال شدہ حفاظتی سیٹیں یا بوسٹر سیٹیں استعمال کرنے سے گریز کیا جائے کیونکہ یہ نقصان کا شکار ہو سکتی ہیں اور محفوظ نہیں ہوں گی۔



- سٹریپ بچے کو حفاظتی سیٹ میں رکھنے کیلئے باندھے جاتے ہیں۔

بچوں کیلئے حفاظتی سیٹیں استعمال نہ کرنے کے نتیجے میں بڑے جرمانے اور لائسنس پر سزا کے پوائنٹس لگنے ہیں۔ یہ جرمانے ہر اس شخص کیلئے لگتے ہیں جسے کار میں محفوظ طریقے سے نہ بٹھایا گیا ہو۔

